

Q8. سخاوت کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان کریں۔

Ans 1: اللہ تعالیٰ نے ایثار کرنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: " اور وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو"۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ترجمہ: سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے اور کنجوس اللہ اور جنت سے دور اور آگ کے قریب ہے۔

Q9. وفد عبدالقیس کے سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے کیا اہتمام کیا۔

Ans 1: اس وفد کے سردار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے پاس حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور علم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔

Q10. غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کیا مال غنیمت حاصل ہوا؟

Ans 1: غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس مال غنیمت میں چھ بزار جنگی قیدی، چوبیس بزار اونٹ، چالیس بزار بکریاں اور چار بزار بکریاں اور چار بزار اوقیہ چاندی شامل تھی۔